

PAKISTAN DOMESTIC  
SEASON 2019-20  
14 SEP - 24 APR

CRICKET  
CHAMPIONS  
Inspiring the Nation



## قائداعظم ٹرافی فرسٹ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا پہلا روز مکمل

لاہور، 21 ستمبر 2019ء:

قائداعظم ٹرافی فرسٹ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہو گیا۔ 21 ستمبر بروز ہفتہ سے شروع ہونے والا راؤنڈ 24 ستمبر بروز منگل تک جاری رہے گا۔

11 سال بعد کوئٹہ میں جاری فرسٹ کلاس میچ کے پہلے روز بلے بازوں کا راج رہا۔ بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں دن کے اختتام تک میزبان ٹیم نے عظیم گھمن اور عمران فرحت کی سنچریوں کی بدولت 4 وکٹوں کے نقصان پر 347 رنز بنالیے۔ اس سے قبل ایک دہائی بعد کوئٹہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ میچ کے لیے دونوں ٹیموں کے کپتان میدان میں اترے تو شان مسعود کی جانب سے پہلی بار نو ٹاس قانون کا استعمال کیا گیا۔ بلوچستان کی جانب سے عمران بٹ اور عظیم گھمن کے درمیان 129 رنز کی اوپننگ شراکت قائم ہوئی۔ عمران بٹ 66 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ابوبکر خان بغیر کوئی رن بنائے پویلین واپس لوٹ گئے جس کے بعد کپتان عمران فرحت اور عظیم گھمن کے درمیان 181 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ عمران فرحت 118 گیندوں پر 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ ان کی اننگز میں 17 چوکے شامل تھے۔ دن کے اختتام تک عظیم گھمن 14 چوکوں کی مدد سے 143 اور مقامی کھلاڑی بسمعہ اللہ خان 4 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ سدرن پنجاب کے باؤلرز نے میچ کے پہلے روز 84 اوورز میں 11 اضافی رنز دیئے۔

اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری میچ کے پہلے روز سنٹرل پنجاب نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 369 رنز بنالیے ہیں۔ کامران اکمل نے 157 اور اظہر علی نے ناقابل شکست 130 رنز بنائے۔ اس سے قبل ناردن کرکٹ ٹیم کے کپتان عمر امین نے ٹاس کیے بغیر پہلے باؤلنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے سلمان بٹ اور رضوان حسین نے اننگز کا آغاز کیا۔ سنٹرل پنجاب کے پہلے 4 کھلاڑی 134 کے مجموعی اسکور پر پویلین واپس لوٹ چکے تھے کہ چھٹے نمبر

پر بیٹنگ کے لیے آنے والے تجربہ کار کامران اکمل نے کپتان اظہر علی کے ہمراہ ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 235 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ دن کے اختتام پر کامران اکمل 157 رنز بنا کر نعمان علی کی گیند پر آؤٹ ہو گئے۔ ان کی اننگز میں 12 چوکے اور 4 چھکے شامل ہیں۔ دوسری جانب کپتان اظہر علی 110 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ ناردرن کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر محمد موسیٰ نے 3 جبکہ رضا حسن اور نعمان علی نے 1،1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ کا پہلا روز میزبان ٹیم کے نام رہا۔ عمر بن یوسف کے 133 رنز کی بدولت سندھ نے دن کے اختتام تک 254 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل نو ٹاس قانون کا استعمال کرتے ہوئے خیبرپختونخوا کے کپتان صاحبزادہ فرحان نے پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ سندھ کی جانب سے خرم منظور اور عمر بن سہیل نے اننگز کا آغاز کیا۔ دونوں کے درمیان 130 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ خرم منظور 152 گیندوں پر 40 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین سعد علی تھے جنہوں نے 1 اسکور کیا۔ تیسری وکٹ کے لیے عمر بن سہیل اور اسد شفیق کے درمیان 124 رنز کی پارٹنرشپ قائم ہو چکی ہے۔ دن کے اختتام پر عمر بن سہیل 133 اور کپتان اسد شفیق 68 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ خیبرپختونخوا کی جانب سے عادل امین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

- ENDS -

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

